

برائے فوری اجراء

اپنے نشان پر آ جاؤ، تیار رہو، بھاگو! سٹی نے پہلی برامپٹن ہاف میراتھن (Brampton Half Marathon) کا اعلان کر دیا ہے

برامپٹن، آن (26 ستمبر 2019) - دوڑنے کے جوتوں کے تسمے باندھنے اور لچک کی اچھی ورزش کرنے کا وقت آگیا ہے کیونکہ سٹی آف برامپٹن نے لینڈ مارک سپورٹ گروپ آئی این سی (Landmark Sport Group Inc) کے ساتھ اشتراک میں برامپٹن کی تاریخ کی پہلی برامپٹن ہاف میراتھن کا اعلان کر دیا ہے۔

مورخہ 13 - 14 جون 2020 کو منعقد ہونے والی برامپٹن ہاف میراتھن، تقریبات اور سرگرمیوں کا ایک تفریح سے بھرا ویک اینڈ ہو گا جس کا آغاز 13 جون کو رنرز ایکسپو (Runners Expo) کے ساتھ ہو گا۔ دوڑ میں حصہ لینے والے کھلاڑی نمائش کے بٹھس پر بھی جا سکیں گے، جن میں سپانسرز، تجارتی سامان، دوڑ کے کپڑے اور دیگر سامان، غذاء اور تندرستی کی مصنوعات، نمونے اور دیگر بہت سی چیزیں شامل ہیں۔

دوڑ کا آغاز 14 جون 2020 کو صبح 8:00 بجے ہو گا جس میں حصہ لینے والے ہاف میراتھن یا پورے 10 کلومیٹر کی دوڑ میں حصہ لے سکیں گے۔ چونکہ آغاز اور اختتام کی لکیریں ماؤنٹ پلینٹ ویلج میں ہی موجود ہوں گی، لہذا شائقین اور کھلاڑی تاریخی کینیڈین پیسفاک ریلوے سٹیشن سے مستفید ہو سکیں گے۔ ایک چکر والے کورس کے دوران حصہ لینے والے کھلاڑی شہر کے مغربی کنارے تک جائیں گے، جس میں وہ بیربیٹیج روڈ اور لائن ہیڈ گالف کلب کی اطراف میں موجود خوبصورت فارم لینڈ کا نظارہ کر سکیں گے۔



دوڑ میں حصہ لینے والوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ فنڈ جمع کریں اور برامپٹن ہاف میراتھن کے ساتھ شراکت داری کرنے والے درج ذیل آٹھ میں سے کسی ایک خیراتی ادارے کو عطیہ کر دیں۔

- بوائز اینڈ گرلز کلب آف پیل، www.bgcpeel.org
- فری فار آل فاؤنڈیشن، www.ffaf.ca
- کے بلینر ہاسپٹالس (Kay Blair Hospice)
- نائٹس سٹیبل، www.knightstable.org
- پیل چلڈرنز ایڈ فاؤنڈیشن، www.peelcaf.com
- پیل ریجن چیپٹر آف آٹزم اونٹاریو، www.autismontario.com/chapters/peel-region
- سیوا فوڈ بینک، www.sevafoodbank.com
- یونائیٹڈ اچیورز کلب آف برامپٹن، www.unitedachieversclub.com

میراتھن میں حصہ لینے کے خواہشمند اور رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کرنے میں دلچسپی رکھنے والے افراد رجسٹریشن کے لیے www.bramptonhalfmarathon.com ملاحظہ کریں۔ آن لائن رجسٹریشن بروز بدھ مورخہ 10 جون 2020 کو شام 5:00 بجے بند ہو جائے گی۔ دوڑ میں گنجائش باقی رہنے کی صورت میں موقع پر رجسٹریشن بھی کی جا سکے گی۔

اقتباسات

"برامپٹن میں سٹی کی نگرانی میں پہلی ہاف میراتھن کے لیے ہم پرجوش ہیں، اس کا انعقاد برامپٹن اور پیل ریجن کے مقامی خیراتی اداروں کی معاونت کرنے والے لینڈ مارک سپورٹ گروپ آئی این سی کے ساتھ شراکت داری میں کیا جائے گا۔ برامپٹن ایک صحت بخش اور محفوظ شہر ہے اور ہم برامپٹن کے رہائشیوں اور GTA اور اونٹاریو کے تمام افراد کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ جون کے مہینے میں باہر نکلیں اور تفریح سے بھرپور ورزش اور سرگرمیوں کے ویکینڈ میں شرکت کریں۔"

- میئر پیٹرک براؤن

"اجتماعی شرکت کی عالمی معیار کی واک/دوڑ کی تقریب کو آپ کے عظیم شہر میں لانے کے لیے ہم میئر پیٹرک براؤن اور سٹی آف برامپٹن کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے نہایت پرجوش ہیں۔ اس تقریب میں دوڑ میں حصہ لینے والے نہ صرف برامپٹن کے شہریوں بلکہ GTA، اونٹاریو، کینیڈا اور دنیا بھر سے دوڑ کے مقابلوں میں حصہ لینے والے پرجوش افراد کے سامنے برامپٹن کی خوبصورتی اور خصوصیات کی خوب نمائش ہو گی۔"

- ایلینٹ کیر (Elliott Kerr)، پریزیڈنٹ، لینڈ مارک سپورٹ گروپ آئی این سی۔

30--

کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرنے میں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال
کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca